



کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

- بین کٹنگ کی برق رفتار اننگز نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا
- جیسن رائے کی نصف سنچری

راولپنڈی، 27 فروری 2020ء:

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایچ بی ایل پی ایس ایل کی تاریخ میں راولپنڈی میں کھیلا گیا پہلا میچ جیت لیا ہے۔ ایونٹ کے نویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم نے 188 رنز کا ہدف 2 گیندیں قبل حاصل کیا۔

بین کٹنگ نے اننگز کے اٹھارویں اور میں فہیم اشرف کو 17 رنز جڑ کر میچ کا پانسہ پلٹا۔ انہوں نے چھٹی وکٹ کے لیے محمد نواز کے ہمراہ 57 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کر کے ٹیم کو فتح دلانی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو میچ کے آخری اوور میں 11 رنز درکار تھے۔ اس دوران بین کٹنگ نے مسلسل 2 گیندوں پر 2 چھکے داغ کر ٹیم کو کامیابی دلادی۔

بین کٹنگ 17 گیندوں پر 42 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ان کی برق رفتار اننگز میں 4 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے۔ محمد نواز 25 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

اس سے قبل اوپنر جیسن رائے نے نصف سنچری اسکور کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو بہترین آغاز فراہم کرنے میں مدد دی۔ انتیس سالہ انگلش کرکٹر جیسن رائے کی یہ ایونٹ میں دوسری نصف سنچری ہے۔ وہ 38 گیندوں پر 6 چوکوں اور 2 چھکوں کی بدولت 50 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انہیں احمد صفی عبداللہ نے پویلین کی راہ دکھائی۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 19.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے احمد صفی عبداللہ اور فہیم اشرف نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

دوسری طرف میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں

کے نقصان پر 187 رنز بنائے تھے۔ 56 رنز پر ابتدائی تین وکٹیں گرنے کے بعد کولن انگرام اور کپتان شاداب خان کے درمیان 76 رنز کی شراکت نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو بڑا مجموعہ اسکور کرنے میں مدد دی۔

کولن انگرام نے 40 گیندوں پر 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 6 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ کپتان شاداب خان 3 چوکوں اور 2 چھکوں کی بدولت 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے تیسرے بہترین بلے باز کولن منرو رہے۔ انہوں نے 20 گیندوں پر 31 رنز بنائے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے نسیم شاہ اور ٹیمل ملز نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

میچ میں شاندار بلے بازی کرنے پر بین کٹنگ کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

اٹھائیس فروری کو ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم جبکہ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں مدمقابل آئیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com
@thePSL20
@thePSL
PakistanSuperLeague
@thePSL

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4

